

سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِثَا عَشْرَةَ آيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

در نام پر اسم و اے کے نام سے (شرعی کتابوں)

لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ لِيُذَكِّرَ الْاِنْسَانَ اَنْ يَّحْسِبَ اَنْ اَنْفُسُهُمْ اَشِدَّ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُغْتَابُوْنَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَرُءُوْسَ الْاَنْبِيَاءِ وَكَانُوْا كَافِرِيْنَ

مَنْ يَّحْسِبْ اَنْ اَنْفُسُهُمْ اَشِدَّ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُغْتَابُوْنَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَرُءُوْسَ الْاَنْبِيَاءِ وَكَانُوْا كَافِرِيْنَ

لَا اَسْتَمْعُوْا لَهُمْ وَهُمْ لِيُبْعِدُوْا عَنْ اٰمِنَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا كَافِرِيْنَ

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُغْتَابُوْنَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَرُءُوْسَ الْاَنْبِيَاءِ وَكَانُوْا كَافِرِيْنَ

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُغْتَابُوْنَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَرُءُوْسَ الْاَنْبِيَاءِ وَكَانُوْا كَافِرِيْنَ

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُغْتَابُوْنَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَرُءُوْسَ الْاَنْبِيَاءِ وَكَانُوْا كَافِرِيْنَ

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُغْتَابُوْنَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَرُءُوْسَ الْاَنْبِيَاءِ وَكَانُوْا كَافِرِيْنَ

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُغْتَابُوْنَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَرُءُوْسَ الْاَنْبِيَاءِ وَكَانُوْا كَافِرِيْنَ


اِنَّهُمْ كَانُوْا يُغْتَابُوْنَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَرُءُوْسَ الْاَنْبِيَاءِ وَكَانُوْا كَافِرِيْنَ

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُغْتَابُوْنَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَرُءُوْسَ الْاَنْبِيَاءِ وَكَانُوْا كَافِرِيْنَ

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُغْتَابُوْنَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَرُءُوْسَ الْاَنْبِيَاءِ وَكَانُوْا كَافِرِيْنَ

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُغْتَابُوْنَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَرُءُوْسَ الْاَنْبِيَاءِ وَكَانُوْا كَافِرِيْنَ

معلوم ہو رہی ہے جس کی سیدھے ظہر بات علی جو ہرگز نہ بدلتا



Handwritten marginal notes in Urdu script, including 'کتاب اللہ', 'حروف کلاسیک', and 'حشر'.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page.

Handwritten notes at the top of the page, including the word 'انہما' and other illegible text.

Vertical handwritten notes on the right side of the page, starting with 'انہما' and containing various interpretations and commentary.

أَهْلَكْنَاهَا أَفْهَمُ يَوْمِنُونَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ

تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور جنے تم سے پہلے بھی آدمی ہی

الْأَرْبَابَ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن تَیْسَّرَ

یہی تھے جب ان پر وحی کیا کرتے تھے پس اگر تم نہیں جانتے تو یاد والوں سے (یعنی آل

كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ

رسول سے) ہونے والے اور جنے ان کے ایسے جسم نہ بنائے تھے کہ وہ کھانے پکھانے

الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۚ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ

ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے پھر جنے اپنے وعدہ (عذاب) کو پورا کیا

فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۚ لَقَدْ

تھاغ کر دکھایا پھر خود انکو اور جس میں کو جنے چاہا نجات دیدی اور زیادتی کرنے والوں کو مہلک کر دیا (ای قوم تو میں)

أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ وَ

جنے تمہیں ایک کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے جس میں تمہاری طبیعت (جو وہ ہے) کیا تم انہی نہیں سمجھتے؟ اور

كَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا

جنے کتنی ہی بستیاں جو نافرمان تھیں بجا کر دیں اور ان کے آ جا رہے تھے اور اور اور لوگ

قَوْمًا آخَرِينَ ۚ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَانِ آهْمُ مِنْهَا

پیدا کر دیے پھر جب وقت انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو لگے وہاں سے

يَرْكُضُونَ ۚ لَّا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ فِيهِ

پھرتے بھاگتے (یعنی اے لوگو!) اب تیز بھاگو اور جہاں تمکو آسائش لاکر تھی اسی مقام کی طرف

وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ۚ قَالُوا يَا وَيْلَنَا كَانَتْ

اور اسی مکانوں کی طرف لوٹ کر جاؤ تاکہ تمہاری حاجت پوری کی جائے وہ بولے کہ ہاں خرابی ہماری ہم تو پھرتے

ظُلْمِينَ ۚ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ

نافرمان تھے پس وہ برابر ہی پکارتے رہے یہاں تک کہ پہنچے انکو مار کر

Handwritten notes at the bottom of the page, including the word 'انہما' and other illegible text.

Large handwritten notes on the right side of the page, including a large 'لا' and various interpretations and commentary.

جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ۝ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ

کئی ہوتی کھیتی کا سا ڈھیر لگا دیا اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنِينَ ۝ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ

ان دونوں کے درمیان جو کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا اگر ہم کوئی کھیل ہی بنانا چاہتے تو اپنی ہمت

لَهُمَا لَاتَخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَعِلِينَ ۝ بَلْ

اپنی شان کے موافق کرتے بشرطیکہ ہم کو ایسا ہی کرنا ہوتا بلکہ

نَقَدْتُمْ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ

ہم تو حق کو باطل پر غالب کر دیتے ہیں وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے پھر یکایک وہ باطل کا نور

زَاهِقٌ وَوَلَكُمْ أَلْوِيلٌ مِمَّا تَصِفُونَ ۝ وَكَأَمْ مَنْ

ہو جاتا ہے اور تمہارے لیے جو کچھ تم بیان کرتے ہو انہوں سے ہے اور چھڑوئی العقول

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اسی کے ہیں اور اسی حضور میں ہیں نہ اسی عبادت سے

عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ

سرتابی کرتے ہیں اور نہ مٹتے ہیں رات اور دن اسی کی باری بیان

وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنْ

کرتے رہتے ہیں (اور) کاہلی نہیں کرتے کیا انہوں نے زمین سے ایسے خدا بنا لیے ہیں جو

الْأَرْضِ هُمْ يُشْرِكُونَ ۝ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ

(مردوں کو) زندہ کر دے اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور کوئی خدا ہو تو

لَفَسَدَتَا ۝ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

یہ دونوں کبھی کو اگر گمراہی پس جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا تعالیٰ نے اس کا مالک سب (باتوں کی) مشرک نہ

لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۝

جو کچھ وہ کرتا ہی اسی نسبت اس سے باز پرس نہیں کی جاسکتی اور اسے باز پرس کی جاسکتی

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and explanations.

أَمَّا تَأْتُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا وَقُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

کیا آتوں نے اُسے چھوڑ کر اور خدا بنا لیے ہیں تم کہدو کہ تم اپنی (اپنی) دلیل پیش کرو

هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي وَإِلَٰهُكُمْ

یہ (قرآن مجید) تمکے لیے یہی نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں اور تمکے لیے یہی نصیحت ہے جو میری پہلے

لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا

لیکن ہرگز کسی کو سمجھتے نہیں اسی سے وہ روگرداں ہوتے ہیں اور تمہیں تمہے پہلے ایک

مِّنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْكَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ

رسول بھی ایسا نہ بھیجا کہ اسکی طرف ہم یہ وحی نہ کرنے رہے ہوں کہ چہ سو کوئی مہبود نہیں ہے

إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۚ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا

تم میری ہی عبادت کیا کرو اور وہ کہہ اٹھے کہ رحمن نے کسی کو بیٹا بنا لیا اسکی پوتے

سُبْحٰنَہٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۚ لَا يُسْبِقُونَہٗ

اس نعمت مہری پر بلکہ وہ تو اُسکے موز بندے ہیں جو بات کہنے میں اُس سے سبقت

بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِہٖ يَعْمَلُونَ ۚ يَعْلَمُونَ مَا

نہیں کرتے اور اُسکے امر کے بموجب عمل کرتے رہتے ہیں وہ اُنکے آئندہ اور

بَيْنَ أَيْدِيہُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ

گوشہ (سب) کا حال جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوا اُسکے

أَرْضَىٰ وَهَمٌّ مِّنْ خَشْيَتِہٖ مُّشْفِقُونَ ۚ وَمَنْ

اُسکو پسند ہو اور وہ اُسکے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو اُن میں

يَقُلْ مِنْہُمْ لِي رِزْقٌ مِّنْ دُونِہٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيہٗ

سے یہ کہدے کہ میں بھی اُسکے علاوہ ایک مہبود ہوں پس ایسی ہی کا بدلہ تو ہم جہنم

جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

مقرر کرینگے ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں جو لوگ کافر ہو گئے ہیں

میں نے اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ ہرگز کسی کو سمجھتے نہیں اسی سے وہ روگرداں ہوتے ہیں اور تمہیں تمہے پہلے ایک رسول بھی ایسا نہ بھیجا کہ اسکی طرف ہم یہ وحی نہ کرنے رہے ہوں کہ چہ سو کوئی مہبود نہیں ہے

میں نے اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ ہرگز کسی کو سمجھتے نہیں اسی سے وہ روگرداں ہوتے ہیں اور تمہیں تمہے پہلے ایک رسول بھی ایسا نہ بھیجا کہ اسکی طرف ہم یہ وحی نہ کرنے رہے ہوں کہ چہ سو کوئی مہبود نہیں ہے

كُفْرًا وَأَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

کیا انکی کہ میں یہ نہیں آیا کہ آسمان و زمین دو دو بند تھے پھر مجھے دونوں کو کھول دیا

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

اور مجھے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنا دیا گیا (ابھی) وہ ایمان نہ لائینگے؟ اور

جَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا

زمین میں چٹانوں کی پٹھاری پٹھاری ہمارے قائم کر دے کہ میں انکو لیکے جھک نہ جائے اور اس میں آگے

فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا

پہلوڑے پہلوڑے راستے بنا دیے کہ وہ راہ پالیں اور آسمان کو

السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مَعْزُومُونَ

مجھے ایک محفوظ چھت قرار دیا اور وہ ہیں کہ اسکی نشانیوں سے روگرداں ہوتے ہیں

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ

اور وہ وہی تو ہے جس نے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو پیدا کر دیا کہ وہ سب

فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِلْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ

آسمان میں تیر رہے ہیں اور دوام تو مجھے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے مقرر ہی نہیں کیا

أَفَلَا يَنْمُوتُ فَمِمَّ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

کیا تم مر جاؤ گے تو یہ ہمیشہ رہینگے؟ ہر نفس موت کا چکھنے والا ہے

وَنَهَلُكُمْ بِالْمَاءِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

اور ہم آزمائش کے طور پر پانی اور نیکی تمہارا آسمان لینگے اور ہماری ہی طرف تمہاری بازگشت ہوگی

وَلَذَارِئِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُنَافِقِينَ أَكْثَرُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ

اور جو موت وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں اور جھٹکتے ہیں تو تمہاری ہی طرف ہی آگاتے ہیں (اور یہ کہتے ہیں)

إِهْدِ الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الرَّاغِبِينَ

کیا وہ شخص ہی ہے جو تمہارے معبودوں (کا بدی کے ساتھ) کرتا ہے حالانکہ وہ خود ذکر خدا کے

تفسیر القرآن... اس آیت میں... زمین میں... پانی سے... چٹانوں کی... ساقیوں کی... موت کا... آزمائش کے... کافر ہوئے... ذکر خدا کے... اس آیت میں... زمین میں... پانی سے... چٹانوں کی... ساقیوں کی... موت کا... آزمائش کے... کافر ہوئے... ذکر خدا کے...

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ سَأُولَٰئِكَ جُزْءٌ مِمَّا يَخْرُجُونَ ۝ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُولَٰئِكَ جُزْءٌ مِمَّا يَخْرُجُونَ

منکر ہیں انسان (گو یا) پیدا جلدی سے کیا گیا ہے غم میں تمکو اپنی نشانیاں

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْشَلُوا وَلَا تَعْلَمُوا عَاقِبَتَكُمْ ۝ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ هَذِهِ سَبِيلَ أُولَٰئِكَ لَمَّا خَسَفْنَا السَّمَاءَ كَشَفْنَا عَنْكُمْ غَابِطَتِي ۝ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۝ إِنَّكَ عَلَىٰ عِندَ رَبِّكَ بِرَأْسِ الْكُرْسِيِّ ۝ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

دکھلاؤ تمکاپس تم مجھ سے جلدی کی خواہش نہ کرو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ

وَعَدَةُ آيَاتِنَا كَبُورًا ۝ لَاشَاءَ لَكُمْ فِيهَا حَقٌّ ۝ وَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ سَأُولَٰئِكَ جُزْءٌ مِمَّا يَخْرُجُونَ

وعدہ آیتنا کب؟ کاش یہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں اسوت کو جان لیتے

ظَهْرَهُمْ وَلَا يَنْصَرُونَ ۝ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً

جبکہ لوگ آتش جہنم کو نہ اپنے منہ کی طرف روک سکیں اور نہ اپنی پیٹھ کی طرف سے اور نہ

فَتَبْتَهُمْ فَلَا يُصْطَبِعُونَ رُدَّهُمْ وَلَا يَنْظُرُونَ ۝

انہی (کسی قسم کی) آمد کی جائیگی (تو کبھی جلدی نہ کرتے) لیکن قیامت تو انکو یکایک آئیگی

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَنْبِئُوا النَّاسَ بِالْحَقِّ ۚ وَكُنْتُمْ أَكْثَرًا مُنْكَرِينَ ۝

پھر وہ انکو سہوات کر دیں ہیں نہ یہ انکو سنا سکیں اور نہ انکو صلت دیجائیںگی

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَنْبِئُوا النَّاسَ بِالْحَقِّ ۚ وَكُنْتُمْ أَكْثَرًا مُنْكَرِينَ ۝

اور یقیناً تم سے پہلے رسولوں کی بھی اتنی ہی اڑائی تھی ہے پھر جو آنے تو کیا کرتے تھے

سَخِرُوا مِنْهُمْ مِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ قُلْ مَنْ

تو جس مذاب کی بات وہ انہی اڑایا کرتے تھے اس نے؟ انکو آیا تم یہ کہدو کہ

يَكْفُرُ بِكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرِّحْمِ ۚ بَلْ

رات میں اور دن میں (مذاب) خدا سے تم کو بجا کون لگا؟

هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ۝ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ

اپنے پروردگار کے ذکر ہی سے روگرداں ہونوالے ہیں آیا انکے کوئی ایسے خدا ہیں جو

تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَفِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ

ہمارے مذاب سے انکو بچائیں؟ وہ اپنی ذات کی مدد تو کری نہیں سکتے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَنْبِئُوا النَّاسَ بِالْحَقِّ ۚ وَكُنْتُمْ أَكْثَرًا مُنْكَرِينَ ۝

اور جب انکا نام لیا کہ وہ اس وقت مستحق سے بچو۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔



وَلَا هُمْ مِتْنَا يَعْجِبُونَ ۝ بَلْ مَتَعْنَاهُمْ لَوْلَا رِءُوسُ آبَائِهِمْ

اور نہ ہماری طرف اٹکسا تھو دیا جاتا ہے بلکہ ہمیں اٹکوا اور اٹکے باپ داداؤں کو قائمہ پہنچایا

حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ

پہنچتا کہ (جو شمال میں) آئی ہمیں گزرتی ہیں کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو برابر آسکے اور اپنی

نَقْصِهِمْ مِنْ اطْرَافِهِمْ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝ قُلْ إِنَّمَا

سے کم کرنے چلے آئے ہیں کیا اب بھی وہی غالب ہیں؟ تم یہ کہو کہ تمہارے

أَنْذَرَكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ اللَّهُ عَزَّ ذَا مَا

نہیں کہیں ہی کے مطابق اٹکوا ڈرانا ہوں اور بہروں کو جو وقت ڈرایا جائے تو وہ کسی کی

يُنذِرُونَ ۝ وَلَكِنْ مَسْتَهْمُ نَفْعَةٍ مِنْ عَذَابِ

دیتے ہی نہیں اور اگر تمہارے پروردگار کا عذاب ذرا سا بھی ہو مگر جو بھی لگا تو ضرور یہ

رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ يَوْمَ يُنَادِي الْأَكْفَابِ الْمِيمِينَ ۝ وَنَضَعُ

کہنے لگے کہ بے خوابی ہماری ہم ہی تو نافرمان تھے اور ہم قیامت کے

الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِمَنْ وَالْقِيَمَةَ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ

دن انصاف کی نیزائیں قائم کرینگے پس کسی نفس پر ذرا سا بھی ظلم کیا جائیگا

شَيْئًا وَلَا نُنْزِلُ الْوَيْلَ إِلَّا عَلَى الْفَاسِقِينَ ۝ وَإِنَّا لَنَنزِلُ

اور اگر رانی کے دانہ کے برابر بھی (کوئی عمل) ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کرینگے

بِهَاءٍ وَكُنِيَ بِنَا حَاسِبِينَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ

اور صاب لینے کو ہم ہی کافی ہیں اور یقیناً ہمیں موسے و ہارون کو

وَهَرُونَ الْفُرْقَانَ وَصِبَاءً وَذِكْرًا

(حق و باطل کی) جلیق اور ان پر ہیزگاروں کے بے روشی اور نصیحت غایت

لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ

کی تھی جو بے رویے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں

وَلَا هُمْ مِتْنَا يَعْجِبُونَ اور نہ ہماری طرف اٹکسا تھو دیا جاتا ہے بلکہ ہمیں اٹکوا اور اٹکے باپ داداؤں کو قائمہ پہنچایا
حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ پہنچتا کہ (جو شمال میں) آئی ہمیں گزرتی ہیں کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو برابر آسکے اور اپنی
نَقْصِهِمْ مِنْ اطْرَافِهِمْ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ سے کم کرنے چلے آئے ہیں کیا اب بھی وہی غالب ہیں؟ تم یہ کہو کہ تمہارے
أَنْذَرَكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ اللَّهُ عَزَّ ذَا مَا نہیں کہیں ہی کے مطابق اٹکوا ڈرانا ہوں اور بہروں کو جو وقت ڈرایا جائے تو وہ کسی کی
يُنذِرُونَ دیتے ہی نہیں اور اگر تمہارے پروردگار کا عذاب ذرا سا بھی ہو مگر جو بھی لگا تو ضرور یہ
رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ يَوْمَ يُنَادِي الْأَكْفَابِ الْمِيمِينَ وَنَضَعُ کہنے لگے کہ بے خوابی ہماری ہم ہی تو نافرمان تھے اور ہم قیامت کے
الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِمَنْ وَالْقِيَمَةَ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ دن انصاف کی نیزائیں قائم کرینگے پس کسی نفس پر ذرا سا بھی ظلم کیا جائیگا
شَيْئًا وَلَا نُنْزِلُ الْوَيْلَ إِلَّا عَلَى الْفَاسِقِينَ وَإِنَّا لَنَنزِلُ اور اگر رانی کے دانہ کے برابر بھی (کوئی عمل) ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کرینگے
بِهَاءٍ وَكُنِيَ بِنَا حَاسِبِينَ اور صاب لینے کو ہم ہی کافی ہیں اور یقیناً ہمیں موسے و ہارون کو
وَهَرُونَ الْفُرْقَانَ وَصِبَاءً وَذِكْرًا (حق و باطل کی) جلیق اور ان پر ہیزگاروں کے بے روشی اور نصیحت غایت
لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ کی تھی جو بے رویے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں

وَلَا هُمْ مِتْنَا يَعْجِبُونَ

وَلَا هُمْ مِتْنَا يَعْجِبُونَ اور نہ ہماری طرف اٹکسا تھو دیا جاتا ہے بلکہ ہمیں اٹکوا اور اٹکے باپ داداؤں کو قائمہ پہنچایا
حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ پہنچتا کہ (جو شمال میں) آئی ہمیں گزرتی ہیں کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو برابر آسکے اور اپنی
نَقْصِهِمْ مِنْ اطْرَافِهِمْ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ سے کم کرنے چلے آئے ہیں کیا اب بھی وہی غالب ہیں؟ تم یہ کہو کہ تمہارے
أَنْذَرَكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ اللَّهُ عَزَّ ذَا مَا نہیں کہیں ہی کے مطابق اٹکوا ڈرانا ہوں اور بہروں کو جو وقت ڈرایا جائے تو وہ کسی کی
يُنذِرُونَ دیتے ہی نہیں اور اگر تمہارے پروردگار کا عذاب ذرا سا بھی ہو مگر جو بھی لگا تو ضرور یہ
رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ يَوْمَ يُنَادِي الْأَكْفَابِ الْمِيمِينَ وَنَضَعُ کہنے لگے کہ بے خوابی ہماری ہم ہی تو نافرمان تھے اور ہم قیامت کے
الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِمَنْ وَالْقِيَمَةَ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ دن انصاف کی نیزائیں قائم کرینگے پس کسی نفس پر ذرا سا بھی ظلم کیا جائیگا
شَيْئًا وَلَا نُنْزِلُ الْوَيْلَ إِلَّا عَلَى الْفَاسِقِينَ وَإِنَّا لَنَنزِلُ اور اگر رانی کے دانہ کے برابر بھی (کوئی عمل) ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کرینگے
بِهَاءٍ وَكُنِيَ بِنَا حَاسِبِينَ اور صاب لینے کو ہم ہی کافی ہیں اور یقیناً ہمیں موسے و ہارون کو
وَهَرُونَ الْفُرْقَانَ وَصِبَاءً وَذِكْرًا (حق و باطل کی) جلیق اور ان پر ہیزگاروں کے بے روشی اور نصیحت غایت
لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ کی تھی جو بے رویے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں

بے روشی جس سے جہالت اور ہیبت کی تاریکیوں سے نکل آتیں۔ اور ذکر سے مراد ہے وہ نصیحت جس سے ہیزگاروں کو نصیحت حاصل کر سکتی ہیں ۱۲

وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۝ وَهَذَا ذِكْرُ

اور قیامت کے آنے سے غائب ہیں اور یہ برکت والی نصیحت ہے

مُبْرَكٍ أَنْزَلْنَاهُ وَأَقْنَمْلَهُ مُنْكَرُونَ ۝ وَلَقَدْ

جکو چنے نازل کیا ہے کیا تم اسی کے منکر ہو اور چنے

اتَّبَعْنَا بِرُحْمِمْ رُشْدًا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ۝

ابراہیم کو پہلے ہی سے سمجھ غایت کی تھی اور ہم ان کی قابلیت سے واقف تھے

لِذَلِكَ لَا بِيَدِهِمْ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي

اسوقت کو یاد کرنا جبکہ انہوں نے اپنے بچا سے اور اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ یہ موزن چیز کیا ہیں

أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ۝ قَالُوا أَوْجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا

جلی تم نظیم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انکی پرستش

عِبْدِينَ ۝ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي

کرتے پایا فرمایا تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی

ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ۝ قَالُوا اجْتَنَبْنَا الْخَيْرَ أَمَّا أَنْتَ مِنَ

میں تھے انہوں نے کہا کہ آپ کوئی حق بات لائے ہیں یا جوئی لگی

الطَّعِينِينَ ۝ قَالَ بَلْ زَكَّرْتُمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

کرنوالے ہیں؟ فرمایا ہاں تمہارا پروردگار وہی آسمانوں کا اور زمین کا پروردگار ہے

الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ

چنے انکو پیدا کیا ہے اور میں بھی اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے

الشَّهَادِينَ ۝ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ

ہوں اور خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر بچے جاؤ گے تو میں تمہارے

بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدَابِرِينَ ۝ فَجَعَلَهُمْ جَدًّا إِذَا

ان بتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچال ضرور چلوں گا چنانچہ اُنکے بڑے کو چھوڑ کر اور سب ہی کا

ربیع

الانبياء

ربیع

لَا كِبْرَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝ وَقَالُوا

چکن چور کر دیا تاکہ وہ اسکی طرف لوٹ کر آئیں (تو اسے سلامت پائیں۔ جب لوٹتے تو) بولے

مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ قَالُوا

ہمارے سبوروں کی جسے یہ گت بنائی ہے وہ بیشک بڑا ہی ظالم ہے بعض نے کہا

سَمِعْنَا قُتَيْبًا يَذْكُرُهُمْ يَقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۝ قَالُوا

کہ جسے تو ایک نوجوان کو چاہر ابرہیم کے نام سے مشہور ہے تاکہ ذکر برائی کے ساتھ کرتی ہوئی سنا تھا کیا تو

فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۝

ایسا ہی ہے تو اسے آدمیوں کے رو برو لاؤ کہ وہ گواہی دیں (جب حاضر کیے گئے)

قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا ابْنَ الْهَيْمَانَ ۝ قَالَ

تو لوگ بولے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے سبوروں کی یہ گت بنائی ہے؟ فرمایا

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا أَفْسَلُوا هَذَا لَكُنَّا نَمْنُوقُونَ ۝

جو ان میں سب سے بڑا ہے (معلوم ہوتا ہے کہ) اُسے ایسا کیا ہی پس اگر یہ بولتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو

فَرَجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا لَئِمَّا كُنْتُمُ الظَّالِمُونَ ۝

آسوت وہ اپنے اپنے دل میں سوچے اور (جگاہے خود) قائل ہوئے کہ ظالم تو تم خود ہی ہو

ثُمَّ لِيْسُوا عَلَىٰ دَعْوٰ سِمْهٖ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هُوَ لَا ۝

پھر اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈالے ہوئے بولے یہ تو تم یقینا جانتے ہو کہ یہ

يَنْطِقُونَ ۝ قَالَ افْتَعِدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا

بولتے نہیں فرمایا کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمکو کوئی نفع

لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۝ أَفَلَا تَكْمُونَ وَ

پہنچائیں اور نہ تمکو نقصان پہنچائیں تم پر بھی ٹٹ ہے اور

لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

انپر بھی جلی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے۔

منشأ قوتی بندگان
فان انما تصنعون
الذکر الغیبی
بذلک
اقترب للعالم
الانبياء
(۵۲)



قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

(اب و تقار بکر) کہنے لگے کہ اگر تم سے ہر کتاب ہے تو اسکو جلادو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی کے ساتھ اور

أَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِصِينَ وَنَجَّيْنَاهُ

انہوں نے ابراہیم سے چال چلی کرہنے انہی کو سب زیادہ نقصان اٹھانیوالا کر دیا اور ہم نے ابراہیم کو

وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

اور لوٹا کوحجرات دیکر ایسی زمین پر پہنچا دیا جس میں تمام عالموں کے لیے برکت دی تھی اور

وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

ہم نے اُسے (بیٹا) اسحق اور یونساقیوب عنایت کیے اور ان میں سے ہم نے ہر ایک کو نیک بنایا اور انکو ہم نے ایسا امام بنایا جو ہمارے حکم کے بوجب ہدایت کرتے تھے

وَإِذْ نَادَىٰ يَهُدَىٰ نَارًا وَقَامِ الصَّلَاةِ

اور اُنکی طرف ہم نے نیکیاں کرنیلی اور نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی

وَأَيُّهَا الزَّكَاةُ وَكَانُوا الْعَبِيدِينَ وَلَوْطًا

دجی فرمائی اور وہ سب کے سب ہماری بندگی کرنیوالے تھے اور لوٹا کو ہم نے

أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ

فیصلہ کی قوت اور علم عنایت کیا اور انکو اُس بستی سے نجات دی

الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ لَهُمْ كَانُوا أَقْوَامَ

جو بدکاریاں کیا کرتی تھی بیشک وہ بدکار (اور) نافرمان

سَوَاءٍ فِاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا

لوگ تھے اور ہم نے لوٹا کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'لا' (La) symbol, providing commentary on the verses.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page, continuing the commentary.

۵۲۳

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَتَوَحَّادُ نَادِي مِنْ قَبْلُ

یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھے اور توح جو وقت انہوں نے ہو پہلے ہی پکارا تھا

فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَعَدْنَا لَمُتَّىٰ وَوَعَدْنَا لَمُتَّىٰ وَوَعَدْنَا لَمُتَّىٰ

جسے اُنکی دعا قبول کر لی تھی اور اُنکو اور اُنکے کنبہ کو سخت مصیبت سے نجات دی تھی

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ

اور اُن لوگوں کے مقابلہ میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا جسے اُنکو مردی تھی بیشک وہ

كَانُوا قَوْمًا سَوَاءً فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمْ وَوَدَّعَا

لوگ بدکار تھے پھر جسے اُن سب کو ڈھریا دیا تھا اور داؤد

وَسَلِيمًا إِذْ يَمُكِّنُ فِي الْحَرِّ إِذْ تَنَفَّسَتْ فِيهِ

وسیمان جبکہ اُس کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت

عَمَّ الْقَوْمُ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

ایک گروہ کی بریاں چرکھی تھیں اور ہم اُنکے فیصلہ کے دیکھنے والے تھے

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا

پس جسے سلیمان کو وہ فیصلہ سمجھا دیا تھا اور (یوں) فیصلہ کی قوت اور علم تو ہمیں ہر ایک کو دیا تھا

وَسَخَّرْنَا مَعَهُ دَاوُدَ وَالْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا

اور پہاڑوں کو جسے داؤد کے تابع کر دیا تھا کہ اُنکے ساتھ ساتھ (خدا) کیا کرتے تھے اور طرح پرندوں کو

فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ

اور ان باؤں کو کرنا لے ہم ہی تو تھے اور جسے داؤد کو زرہ بنانی سکھائی تھی کہ تمکو

لِيُخَوِّضَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

راتانی میں محفوظ رکھے آیا تم اب بھی) شکر گزار ہو

وَلَسَلِيمًا كَمَا جَاءَهُمْ تَجْرِبَةُ

اور سلیمان کا جسے سخت ہوا کہ تابع کر دیا تھا کہ وہ اُنکو اُنکے علم کے

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses.

(۵۲۶)

افتر للناس

الانبياء

وَتَقَطُّعُوا أَرْهَمَ بَيْتِهِمْ كُلَّ الْبَيْتِ أَرْجَعُونَ

اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا (آخر تو سب ہمارے پاس آئیں گے)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

پس جو شخص مومن ہو سبکی حالت میں نیکیاں کرے اسکی کوشش کی تاقدری

فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدٍ وَلَا ثَمَّالَةَ كَاتِبُونَ وَحَرَّمَ

کی جاگی جس حال میں کہ ہم اسکو لکھنے جاتے ہیں اور جس بستی کو ہم

عَلَى قَرِيْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنهْم لَا يَرْجِعُونَ

ہلا کر رکھے اُسکے بے ممانت ہے کہ وہ رحمت کے زمانہ میں وہاں نہ آئے یہاں تک کہ

إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ

بہا یوج اور ما یوج کھلے جائے اور وہ ہر بند ہی پر سے بھیلے

حَدَبٍ يُنْسَلُونَ وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاذَا

کے آئینگے اور سچا وعدہ قریب آسکے گا تو ایک اُن لوگوں کی

هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا

جو کافر ہونگے تھے انکھیں کھلی کی کھلی بچا لیکر اور وہ کہیں گے اہے خرابی ہاری

قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

ہم تو اس سے غفلت ہی میں رہے بلکہ ہم نافرمان تھے

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

(کہا جائیگا کہ ایتنا تم بھی اور جنی تم خدا کے سوا عبادت کرتے تھے وہ بھی) حصن کا ایندھن ہو

أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ۚ لَوْ كَانَ هُوَ لِآءِ الْعَمَةِ

تم اسی میں آفرینو الے ہو اگر یہ خدا ہوتے تو یہ جہنم میں نہ آتے

مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ

حالانکہ ان میں سے ہر ایک ہمیشہ اسی میں رہنے والا ہے

کیا قرآن لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اسے سمجھ سکیں اور اس سے نیک عمل کر سکیں؟
 کیا قرآن لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اسے سمجھ سکیں اور اس سے نیک عمل کر سکیں؟
 کیا قرآن لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اسے سمجھ سکیں اور اس سے نیک عمل کر سکیں؟
 کیا قرآن لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اسے سمجھ سکیں اور اس سے نیک عمل کر سکیں؟
 کیا قرآن لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اسے سمجھ سکیں اور اس سے نیک عمل کر سکیں؟
 کیا قرآن لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اسے سمجھ سکیں اور اس سے نیک عمل کر سکیں؟
 کیا قرآن لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اسے سمجھ سکیں اور اس سے نیک عمل کر سکیں؟
 کیا قرآن لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اسے سمجھ سکیں اور اس سے نیک عمل کر سکیں؟
 کیا قرآن لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اسے سمجھ سکیں اور اس سے نیک عمل کر سکیں؟
 کیا قرآن لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اسے سمجھ سکیں اور اس سے نیک عمل کر سکیں؟

انہما بآیہ انزلناہما علی قلبنا

۱

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۚ إِنَّ

اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحَسَنَةُ أُولَٰئِكَ عَنْهَا

مُبْعَدُونَ ۚ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۚ وَهُمْ

فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۚ لَا يَحْزَنُهُمْ

الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ۚ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ

كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ ۖ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ

وَعَدًّا عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ لَفَعِيلٌ ۚ وَقَدْ كَتَبْنَا

فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا

عِبَادِي الصَّالِحُونَ ۚ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا

لِقَوْمٍ عَالِمِينَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِقَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِقَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِقَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِقَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِقَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِقَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire left margin.

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire right margin.

اور آفتاب کے مغرب سے طلوع کرنے سے کم ہے آیت ۱۲۰

اقتل للناس
 قتل کے لئے لوگوں کو
 قتل کے لئے لوگوں کو
 قتل کے لئے لوگوں کو
 قتل کے لئے لوگوں کو

الحج ۲۲

لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰى اِلَيَّ اَنْتُمْ اِلٰهُكُمْ

بھیجا ہے تم کو کہ سوائے اسکے نہیں ہے کہ مجھے وحی کی گئی ہو کہ تمہارا مسبود

اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۝ فَاَنْ

مسود کرتا ہے تو آیا تم اب بھی مانو گے؟

تَوْفَاقُلْ اذِنتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ وَّ اِنْ اُدْرِي

روزوں ہوں تو تم یہ کہہ دو کہ میں نے تو برابر اطلاع دی ہے اور میں یہ نہیں جانتا کہ جس چیز

اَقْرَبُ اَمْ بَعِيْدًا مَّا تُوْعَدُوْنَ ۝ اِنَّهٗ يَعْلَمُ

کام سے دنہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا بعید بیشک وہ بلند آواز کی

بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ

بات کو (بھی) جانتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو (بھی) جانتا ہے

وَاِنْ اُدْرِي لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ

اور میں یہ نہیں جانتا کہ شاید یہ (تاخیر) تمہارے لیے آفتاب ہو اور چند روز کا

اِلٰى حِيْنٍ ۝ قُلْ رَبِّ اَحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا

بے پیمانہ (رسول نے) عرض کی اے میرے پروردگار تو حق کے ساتھ فیصلہ کر کے اور ہمارے پروردگار

الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۝

ہی وہ رحمن ہے جس سے ان تمام باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو مدد طلب کی جاتی ہے

اور آفتاب کے مغرب سے طلوع کرنے سے کم ہے آیت ۱۲۰
 اور آفتاب کے مغرب سے طلوع کرنے سے کم ہے آیت ۱۲۰
 اور آفتاب کے مغرب سے طلوع کرنے سے کم ہے آیت ۱۲۰
 اور آفتاب کے مغرب سے طلوع کرنے سے کم ہے آیت ۱۲۰
 اور آفتاب کے مغرب سے طلوع کرنے سے کم ہے آیت ۱۲۰

صوفی



یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة
 اے آدمیو! تم اپنے پروردگار سے ڈرو بیشک قیامت کا زلزلہ

بیشک قیامت کا زلزلہ

السَّاعَةِ شَيْ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرْوَاهَا تَدْمَلُ

ہست بڑی چیز ہے جس دن تم اس قیامت کو دیکھو گے

كُلُّ مَرْضَعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ

ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائیگی جسے دودھ پلایا کرتی تھی اور ہر حمل والی اپنا حمل

حَمْلٍ حَمَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَاهَمُ

گرا دیگی اور تم لوگوں کو نشہ کی سی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ تو الگ

بُسْكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝ وَمِنَ

نہو گئے بلکہ خدا کا عذاب ہی سخت ہوگا اور آدمیوں میں سے

النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ

کوئی کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر علم کے خدا کے بارے میں جھگڑتا ہے اور ہر سرکش شیطان

كُلَّ شَيْطٰنٍ مُّرِيْدٍ ۝ كَتَبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مِّنْ تَوَلٰٓءِهٖ

کی پیروی کرتا ہے اس (شیطان) کے لیے یہ لے کر دیا گیا ہے کہ جو بھی اس سے

فَاِنَّهٗ بِيْضَلُهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝

تو لڑا دیکھا گواہ اسکو فرور بھگانگا اور اسکو دکھتی ہوئی آگ کے عذاب تک پہنچائے گا

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ

اے آدمیو! اگر تم سوچت ہو نیکی طرف سے شک میں ہو تو اسی سے سمجھ لو کہ ابتداء آہستہ نکلو

فَاَنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ

بستہ بند سے پھر گوشت کے لوتھے سے (جو پاتو) کامل مخلقت (ہو گیا) یا ناقص

مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ

(گر گیا) تاکہ تمہارے لیے واضح کریں اور ہم جسکو چاہیں رحم میں ایک مدت

بہت بڑی چیز ہے جس دن تم اس قیامت کو دیکھو گے... ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائیگی جسے دودھ پلایا کرتی تھی اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دیگی اور تم لوگوں کو نشہ کی سی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ تو الگ نہو گئے بلکہ خدا کا عذاب ہی سخت ہوگا اور آدمیوں میں سے کوئی کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر علم کے خدا کے بارے میں جھگڑتا ہے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے اس (شیطان) کے لیے یہ لے کر دیا گیا ہے کہ جو بھی اس سے تو لڑا دیکھا گواہ اسکو فرور بھگانگا اور اسکو دکھتی ہوئی آگ کے عذاب تک پہنچائے گا اے آدمیو! اگر تم سوچت ہو نیکی طرف سے شک میں ہو تو اسی سے سمجھ لو کہ ابتداء آہستہ نکلو... اس سے پیدا کیا... بستہ بند سے پھر گوشت کے لوتھے سے (جو پاتو) کامل مخلقت (ہو گیا) یا ناقص... (گر گیا) تاکہ تمہارے لیے واضح کریں اور ہم جسکو چاہیں رحم میں ایک مدت

بہت بڑی چیز ہے جس دن تم اس قیامت کو دیکھو گے... ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائیگی جسے دودھ پلایا کرتی تھی اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دیگی اور تم لوگوں کو نشہ کی سی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ تو الگ نہو گئے بلکہ خدا کا عذاب ہی سخت ہوگا اور آدمیوں میں سے کوئی کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر علم کے خدا کے بارے میں جھگڑتا ہے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے اس (شیطان) کے لیے یہ لے کر دیا گیا ہے کہ جو بھی اس سے تو لڑا دیکھا گواہ اسکو فرور بھگانگا اور اسکو دکھتی ہوئی آگ کے عذاب تک پہنچائے گا اے آدمیو! اگر تم سوچت ہو نیکی طرف سے شک میں ہو تو اسی سے سمجھ لو کہ ابتداء آہستہ نکلو... اس سے پیدا کیا... بستہ بند سے پھر گوشت کے لوتھے سے (جو پاتو) کامل مخلقت (ہو گیا) یا ناقص... (گر گیا) تاکہ تمہارے لیے واضح کریں اور ہم جسکو چاہیں رحم میں ایک مدت

مَآشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

تمک کے بچے ٹھہرائیں پھر تمکو بچہ بنا کر نکالیں

ثُمَّ لَتُبْلَغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَ

پھر تم اپنی پوری قوت کو پہنچو اور تم میں سے کوئی تو (جوان ہی) مر جائے اور

مِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ

کوئی تم میں سے بوڑھا بھونٹا ہو جائے کہ جانتے کے بعد پھر

مِن بَعْدٍ عَلِيمٌ شَيْءًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً

انجان بجائے اور زمین کو تم خشک اور مردہ دیکھتے ہو

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَدَتْ وَأَرْضٌ

پھر جو قوت ہم اُس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اور

أَنْهَتْ مِنْ كُلِّ ذَوْرٍ بَهِيحٍ ۚ ذَٰلِكَ يَأْتِ اللَّهُ

طرح طرح کے لہمائی ہوئی نباتات کے جوڑے پیدا کر دیتی ہے اس ذکر سے غرض یہ ہے کہ اللہ

هُوَ الْحَقُّ وَأَنََّّهُ يُخَيِّرُ الْمَوْتَىٰ وَإِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

وہی تو برحق ہے اور وہی مردہ کو زندہ کر دیتا ہے اور وہی ہر چیز پر پوری پوری قدرت

قَدِيرٌ ۗ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَ

رکھنے والا ہے اور قیامت آتی ہوئی ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں اور

أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۚ وَمِنَ النَّاسِ

اللہ ان سب کو جو قبروں میں اٹھا کھڑا کر چکا اور آدمیوں میں سے کوئی کوئی

مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ

ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں ججاؤتا ہے حالانکہ نہ اسکو علم ہے اور نہ ہدایت پہنچی ہے اور نہ کوئی کتاب

مُنِيرٌ ۚ ثَانِي عِطْفٍ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

وہی پہچانیوالی ہو (وہ) زراستگیر ہے جسکی غرض یہ ہے کہ لوگوں کو راہ خدا سے بہکائے

کے اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت



اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت

اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت

اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت
اور اسکی دل پر چاہتا ہے کہ اسکو اللہ سے روایت

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَوَدِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابٌ

اُسکے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم جلتے کے عذاب کا اُسے مزہ

الْحَرِيقِ ۚ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَاِنَّ اللّٰهَ لَكَيِّنٌ

جکھا بیچنے والا ہے (اور یہ کہینے والا ہے) اسی عمل کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے پہلے کیا اور اللہ اپنے بندوں کے

بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰٓى

حق میں ظالم نہیں ہے اور آدمیوں میں سے کوئی کوئی ایسا بھی ہے جو دین کے کنارے ہرگز

حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْهُ خَيْرٌ اَوْ طَمَآءٌ بِهٖ ۚ وَاِنْ

اللہ کی عبادت کرتا ہے ہرگز اُسکو خیر وغیر ہی پہنچ گئی تب تو اُس سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اُسپر کوئی

اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلٰٓى وُجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا

مصیبت آپڑی تو مُسند پھیر کے پلٹ جاتا ہے ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں

وَالْآخِرَةَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمَبِيْنُ ۙ يَدْعُوٓا

کی طرف سے ٹوٹے ہیں ہے (اور ایسی) مرتع نقصان ہے وہ اللہ کو

مِنۡ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ۚ ذٰلِكَ

پہچوڑ کر اُس چیز کو بکارتا ہے جو نہ اُسے ضرر پہنچائے اور نہ اُسے نفع پہنچائے یہی تو

هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۙ يَدْعُوٓا لِمَنۡ ضَرُّهُ اَقْرَبُ

بڑی گمراہی ہے (بلکہ) وہ تو اُسکو بکارتا ہے جس کا ضرر نفع کی نسبت

مِنۡ نَّفْعِهٖ ۚ لَيْسَ الْمَوْلٰى وَّلِيًّا لِّلْعَشِيْرِ ۙ

زیادہ یقینی ہے وہ بہت ہی بُرا مددگار اور بہت ہی بُرا رفیق ہے

لَاۤ اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

بیشک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے

جَنَّتْ حَمِيْمِيٍّ مِّنۡ تَحْتِهَا اَلَا نُنۡهَرُ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ

ایسی جنتوں میں داخل کر چکا جتنے بیچے نہیں جاری ہیں بیشک اللہ جو چاہتا ہے

Handwritten marginal notes on the left side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal note: حج

Handwritten marginal note: حج

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

يُؤْمِنُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا

خدا اہانت کرے اسکو عزت دینے والا کوئی نہیں ہو گا بیشک اللہ جو چاہتا ہے

يَشَاءُ ۚ هَذِينَ خَصَّ مِنَ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ز

کرتا ہے یہ دونو (آپس میں) دشمن ہیں جو اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے رہے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَقْطَعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ

پس جو کافر ہو گئے انکے لیے آگ کے کپڑے لٹع کر دیے گئے (اور انکے

مِنْ فَوْقِهِمْ وَسِوَاهُمْ أَحْمِيمٌ ۚ يَصْهَرُ بِهِ مَا

سروں پر گرم پانی آہٹایا جائیگا جبکہ درپے سے جو کچھ انکے

فِي بَطُونِهِمْ وَأَجْلَادٌ ۚ وَكُهُم مَّقَامِعٌ مَثْرَجَةٌ

پیشیز میں ہوگا وہ اور انکی کھالیں کھلا دی جائیں گی اور انکے بچے لوہے کے ہتھوڑے

حَدِيدٍ ۚ كَمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ

ہیں جسوقت تکلیف کے سبب وہ یہ ارادہ کرینگے کہ اس میں سے نکلیں

غَمًّا أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۚ

اسی میں لوٹا دیے جائینگے اور انے یہ کہا جائیگا کہ جنے کے عذاب کا مزا چھو

لَإِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بالیقین اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایسی

جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجَلُّونَ فِيهَا

جنتوں میں داخل کرے گا جنے جے نہیاں بہتی ہیں ان بہشتوں میں انکو

مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسًا فِيهَا

سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائینگے اور (دوپاں) پوشاک انکی

حَوِيرٌ ۚ وَهُدًى إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَ

آہستگی ہوگی وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکیزہ لہجہ کی ہدایت پائی تھی اور

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and translations.

نور سے دیکھو جو جس اور کہ حضرت کو کرتے دیکھیں وہی جلال میں۔ اس کے سنیق اور حدیثیں اصح کے احکام ضمیر میں ملاحظہ کیجئے ۱۲

اگر کسی کو یہ نصیحتیں ملتی ہیں تو اس سے بڑھ کر اور بھی بہتر نصیحتیں مل سکتی ہیں۔ لیکن جو نصیحتیں ملتی ہیں ان سے بڑھ کر اور بھی بہتر نصیحتیں مل سکتی ہیں۔ لیکن جو نصیحتیں ملتی ہیں ان سے بڑھ کر اور بھی بہتر نصیحتیں مل سکتی ہیں۔

اقترب لیسائیں (۵۳۴) ۱۲

هُدً وَّالِي صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي

جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً وَالْعَاكِفِينَ فِيهِ وَالْبَادِ

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِتْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ

الْيَوْمِ ۝ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ

لَا تَشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ

وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ

كُلِّ فِرْعَاطٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا

أَسْمَاءَ اللَّهِ فِي آثَامٍ مُّعَلَّومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ

مِّن بَيْمَاتِهِ ۝ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا

اگر کسی کو یہ نصیحتیں ملتی ہیں تو اس سے بڑھ کر اور بھی بہتر نصیحتیں مل سکتی ہیں۔ لیکن جو نصیحتیں ملتی ہیں ان سے بڑھ کر اور بھی بہتر نصیحتیں مل سکتی ہیں۔ لیکن جو نصیحتیں ملتی ہیں ان سے بڑھ کر اور بھی بہتر نصیحتیں مل سکتی ہیں۔

اگر کسی کو یہ نصیحتیں ملتی ہیں تو اس سے بڑھ کر اور بھی بہتر نصیحتیں مل سکتی ہیں۔ لیکن جو نصیحتیں ملتی ہیں ان سے بڑھ کر اور بھی بہتر نصیحتیں مل سکتی ہیں۔ لیکن جو نصیحتیں ملتی ہیں ان سے بڑھ کر اور بھی بہتر نصیحتیں مل سکتی ہیں۔

اگر کسی کو یہ نصیحتیں ملتی ہیں تو اس سے بڑھ کر اور بھی بہتر نصیحتیں مل سکتی ہیں۔ لیکن جو نصیحتیں ملتی ہیں ان سے بڑھ کر اور بھی بہتر نصیحتیں مل سکتی ہیں۔ لیکن جو نصیحتیں ملتی ہیں ان سے بڑھ کر اور بھی بہتر نصیحتیں مل سکتی ہیں۔

الْبَائِسُ الْفَقِيرُ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفْتَهُمْ وَيُوقُوا
مخارج کو بھی کھلاؤ پھر چاہے کہ اپنی کتابیں دور کریں اور اپنی نذریں

نَدُّوهُمْ وَيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ
پوری کریں اور اس آزاد خانہ (خدا) کا طواف کریں یہ تو ہر جگہ

وَمَنْ يَعْظُم حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ
اور جو شخص احکام خدا کی عظمت کریگا تو وہ اُس کے لیے اُس کے رب کے نزدیک بہت ہی اچھا ہے

وَاحْتَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ
اور تمہارے لیے جو جانے حلال کیے گئے ہیں سوائے اُن کے جکا ذکر تم کو سنایا جائیگا

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
پس اب تم بتوں کی گندگی سے بچو اور تمام لہو و لعب کی باتوں سے

الزُّورِ حُنْفَاءُ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ
اجتناب کرو خالص دل سے خدا کے ہو جاؤ اُس کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہو اور جو شخص کسی کو اللہ کا

بِاللَّهِ فَكَانَتْ آخِرُ مِنَ السَّمَاءِ فَخَطَفَهُ الظُّيُورُ
شریک کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی آسمان سے گر پڑا پھر اُس کو بوندے اُٹک لے گئے یا

تَهْوِي بِهِ إِلَى يَوْمِ فِي مَكَانٍ سَبِيحٍ ذَلِكَ وَمَنْ
ہوانے اُسے اُڑا کر کسی دور کی جگہ پھینک دیا تو ہوا اور جو شخص

يَعْظُم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
خدا کی نشانیوں کی عظمت کریگا پس = امر دلوں کی پرہیزگاری میں شامل ہے

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحْلَاهُمْ إِلَى
تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہو گا قرآنی کے جانوروں میں شامل ہیں پھر اسی آزاد گوشت کے پاس

الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْجِدًا
اُن کے حلال پر نیک حاصل ہے اور ہر امت کے لیے ہننے ایک عبادت کی جگہ

کے لئے اور ان میں سے کچھ کو بھی کھلاؤ پھر چاہے کہ اپنی کتابیں دور کریں اور اپنی نذریں

کتابوں کو بھی کھلاؤ پھر چاہے کہ اپنی کتابیں دور کریں اور اپنی نذریں
پوری کریں اور اس آزاد خانہ (خدا) کا طواف کریں یہ تو ہر جگہ
اور جو شخص احکام خدا کی عظمت کریگا تو وہ اُس کے لیے اُس کے رب کے نزدیک بہت ہی اچھا ہے
اور تمہارے لیے جو جانے حلال کیے گئے ہیں سوائے اُن کے جکا ذکر تم کو سنایا جائیگا
پس اب تم بتوں کی گندگی سے بچو اور تمام لہو و لعب کی باتوں سے
اجتناب کرو خالص دل سے خدا کے ہو جاؤ اُس کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہو اور جو شخص کسی کو اللہ کا
شریک کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی آسمان سے گر پڑا پھر اُس کو بوندے اُٹک لے گئے یا
ہوانے اُسے اُڑا کر کسی دور کی جگہ پھینک دیا تو ہوا اور جو شخص
خدا کی نشانیوں کی عظمت کریگا پس = امر دلوں کی پرہیزگاری میں شامل ہے
تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہو گا قرآنی کے جانوروں میں شامل ہیں پھر اسی آزاد گوشت کے پاس
اور ہر امت کے لیے ہننے ایک عبادت کی جگہ

تجوید

دوم مکتے پھر جو انکو بلا کر دے

دوم مکتے پھر جو انکو بلا کر دے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ الَّذِي لَا يَلُوكُ فِي رِجْلِكَ شَيْءٌ إِلَّا رَجَعْتَ بِهِ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْغُيُوبِ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ الَّذِي لَا يَلُوكُ فِي رِجْلِكَ شَيْءٌ إِلَّا رَجَعْتَ بِهِ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْغُيُوبِ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ الَّذِي لَا يَلُوكُ فِي رِجْلِكَ شَيْءٌ إِلَّا رَجَعْتَ بِهِ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْغُيُوبِ

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ

قرار دیدی ہے کہ جو جو پائے ہننے انکو رزق کے طور پر دیے ہیں انکو

الْأَنْعَامِ ۗ فَالَهُمْ لَهُ وَاحِدٌ فَاسْلَمُوا وَيُبَشِّرِ

اللہ کا نام لیکر ذبح کیا کریں پس تمہارا مسجود مسجود کیا ہے پس تم اسی کے تاج ہو جاؤ اور ان

الْمُحِبِّينَ ۗ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ

تضحہ وزاری کریں انکو جو تجزی سنا دو جنکے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو انکے دل سم جاتے ہیں

وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ۗ

اور جو مصیبت ان پر پڑتی ہے اُس پر صبر کریں والے ہیں اور نماز کے ادا کرنے والے ہیں اور جو

مِمَّا رَزَقْتَهُمْ يَنْفِقُونَ ۗ وَالْبَدَانَ جَعَلْنَا

ہننے انکو دنیا میں ایک ایک حصہ (راہ ضا میں) خرچ کرتے ہیں اور مومنے تازے اونٹ انکو بھی ہننے تمہارے

لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَادْكُرُوا

پے خدا کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے ان میں تمہارے لیے (یعنی اور ذبیحی) نفع میں ہے انکو

اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۗ فَاذْأَوْجِبَتْ جُنُوبَهَا

خز کرتے وقت خدا کا نام لیا کرو پھر جب وہ اپنے پہلوؤں کے پھل گریں

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعِ وَالْمَعْتَرِ ۗ كَذَلِكَ

تو تم خود بھی ان میں سے کھایا کرو اور قناعت کریں سکینوں اور پھیری کریں لقمینوں کو کھلیا اور اس

سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۗ لَنْ نَّبَالَ اللَّهُ كُوفُومَهَا

ہننے انکو تمہارا مطیع کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو خدا کو نہ بھی انکے گوشت پہنچے

وَلَا دِمَاقُهَا وَلَكِنْ نَّبَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۗ كَذَلِكَ

اور نہ انکے خون بلکہ انکو تو تمہاری پرہیزگاری پہنچے اسی طرح

سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ

آنے انکو تمہارا امتاح کر دیا ہے تاکہ اس وایت پر جو آئے کی ہے تم خدا کی راہی (بیان کرتے ہو)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ الَّذِي لَا يَلُوكُ فِي رِجْلِكَ شَيْءٌ إِلَّا رَجَعْتَ بِهِ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْغُيُوبِ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ الَّذِي لَا يَلُوكُ فِي رِجْلِكَ شَيْءٌ إِلَّا رَجَعْتَ بِهِ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْغُيُوبِ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ الَّذِي لَا يَلُوكُ فِي رِجْلِكَ شَيْءٌ إِلَّا رَجَعْتَ بِهِ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْغُيُوبِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ الَّذِي لَا يَلُوكُ فِي رِجْلِكَ شَيْءٌ إِلَّا رَجَعْتَ بِهِ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْغُيُوبِ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ الَّذِي لَا يَلُوكُ فِي رِجْلِكَ شَيْءٌ إِلَّا رَجَعْتَ بِهِ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْغُيُوبِ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ الَّذِي لَا يَلُوكُ فِي رِجْلِكَ شَيْءٌ إِلَّا رَجَعْتَ بِهِ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْغُيُوبِ

وَبَشِّرِ الْحُسَيْنَيْنِ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝ أُذِنَ لِلَّذِينَ
 يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
 لَقَدِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنَ دْيَارِهِمْ بَغْيٌ
 لِّأَنَّهُمْ يُقُولُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا إِلَىٰ اللَّهِ
 مُسْتَجِدُونَ ۖ وَمَن يَتَّخِذْ مِن دُونِ اللَّهِ
 إِهْلًا مَّا يَتَّخِذِ الْإِنسَانُ مِن دُونِ اللَّهِ
 فَهُوَ كَذِبٌ ۖ وَمَن يَتَّخِذْ
 اللَّهَ مَعَهُ فَيَفْزَعْ
 إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّهِ
 لَآتِيًا سَدِيدًا
 وَإِن يَدْرَأكَ
 الْكُفْرَ فَتَوَلَّىٰ
 عُزُرَكَ فَاعْلَمْ
 أَنَّهُ مَكِيدٌ
 ذَلِيلٌ ۚ وَمَن
 يَتَّخِذْ لِحُكْمِ
 اللَّهِ عَصَا فَعَرًّا
 فَإِن يَحْمِلْهُ
 عَسَا فَعَرًّا فَاعْلَمْ
 أَنَّهُ مَكِيدٌ
 ذَلِيلٌ ۚ وَمَن
 يَتَّخِذْ لِحُكْمِ
 اللَّهِ عَصَا فَعَرًّا
 فَإِن يَحْمِلْهُ
 عَسَا فَعَرًّا فَاعْلَمْ
 أَنَّهُ مَكِيدٌ
 ذَلِيلٌ ۚ

وَبَشِّرِ الْحُسَيْنَيْنِ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝ أُذِنَ لِلَّذِينَ
 يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
 لَقَدِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنَ دْيَارِهِمْ بَغْيٌ
 لِّأَنَّهُمْ يُقُولُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا إِلَىٰ اللَّهِ
 مُسْتَجِدُونَ ۖ وَمَن يَتَّخِذْ مِن دُونِ اللَّهِ
 إِهْلًا مَّا يَتَّخِذِ الْإِنسَانُ مِن دُونِ اللَّهِ
 فَهُوَ كَذِبٌ ۖ وَمَن يَتَّخِذْ
 اللَّهَ مَعَهُ فَيَفْزَعْ
 إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّهِ
 لَآتِيًا سَدِيدًا
 وَإِن يَدْرَأَكَ
 الْكُفْرَ فَتَوَلَّىٰ
 عُزُرَكَ فَاعْلَمْ
 أَنَّهُ مَكِيدٌ
 ذَلِيلٌ ۚ وَمَن
 يَتَّخِذْ لِحُكْمِ
 اللَّهِ عَصَا فَعَرًّا
 فَإِن يَحْمِلْهُ
 عَسَا فَعَرًّا فَاعْلَمْ
 أَنَّهُ مَكِيدٌ
 ذَلِيلٌ ۚ وَمَن
 يَتَّخِذْ لِحُكْمِ
 اللَّهِ عَصَا فَعَرًّا
 فَإِن يَحْمِلْهُ
 عَسَا فَعَرًّا فَاعْلَمْ
 أَنَّهُ مَكِيدٌ
 ذَلِيلٌ ۚ

وَبَشِّرِ الْحُسَيْنَيْنِ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝ أُذِنَ لِلَّذِينَ
 يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
 لَقَدِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنَ دْيَارِهِمْ بَغْيٌ
 لِّأَنَّهُمْ يُقُولُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا إِلَىٰ اللَّهِ
 مُسْتَجِدُونَ ۖ وَمَن يَتَّخِذْ مِن دُونِ اللَّهِ
 إِهْلًا مَّا يَتَّخِذِ الْإِنسَانُ مِن دُونِ اللَّهِ
 فَهُوَ كَذِبٌ ۖ وَمَن يَتَّخِذْ
 اللَّهَ مَعَهُ فَيَفْزَعْ
 إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّهِ
 لَآتِيًا سَدِيدًا
 وَإِن يَدْرَأَكَ
 الْكُفْرَ فَتَوَلَّىٰ
 عُزُرَكَ فَاعْلَمْ
 أَنَّهُ مَكِيدٌ
 ذَلِيلٌ ۚ وَمَن
 يَتَّخِذْ لِحُكْمِ
 اللَّهِ عَصَا فَعَرًّا
 فَإِن يَحْمِلْهُ
 عَسَا فَعَرًّا فَاعْلَمْ
 أَنَّهُ مَكِيدٌ
 ذَلِيلٌ ۚ وَمَن
 يَتَّخِذْ لِحُكْمِ
 اللَّهِ عَصَا فَعَرًّا
 فَإِن يَحْمِلْهُ
 عَسَا فَعَرًّا فَاعْلَمْ
 أَنَّهُ مَكِيدٌ
 ذَلِيلٌ ۚ وَمَن
 يَتَّخِذْ لِحُكْمِ
 اللَّهِ عَصَا فَعَرًّا
 فَإِن يَحْمِلْهُ
 عَسَا فَعَرًّا فَاعْلَمْ
 أَنَّهُ مَكِيدٌ
 ذَلِيلٌ ۚ

قَوْمِ نُوْحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدٍ ۝ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمِ لُوْطٍ

نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور لوط

لُوْطٍ ۝ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ ۝ وَكَذٰبِ مُوسٰى فَاَمَلَيْتُمْ

کی قوم اور مدین والے (اپنے اپنے نبی کو) جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ سے بھی جھٹلائے گئے تھے پھر

لِلْكَافِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٍ ۝ فَكَايْنٌ

کافروں کو مہلت دی پھر انکو دھر پکڑا پھر میرا عذاب کیسا تھا؟ پھر کتنی ہی

مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِبَةٌ

بستیاں ایسی تھیں جنکو ہم نے انکی نافرمانی کے سبب ہلاک کر دیا پس وہ اپنی اپنی جھتوں پر

عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَدْرُمَعَطَلَةٌ ۝ وَقَصْرِ مَشِيْدٍ ۝ اَفَلَمْ

گرمی پڑی ہیں اور کتنے ہی کنوئیں بیکار پڑے ہیں اور مضبوط مضبوط محل کیا وہ زمین

يَسِيْرٌ وَاِنِّيْ اَلْاَرْضُ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ

میں نہیں چلے پھرے کہ انکے ایسے دل ہو جاتے جن سے سمجھتے اور سمجھتے

بِهٰٓؤَاۤاِذٰنٍ يَّسْمَعُوْنَ بِهَآءِ فَاِنَّهَا لَا تَعْمٰى اَلْاَبْصَارُ

با انکے ایسے کان ہو جاتے جن سے سمجھتے ایسے کہ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہو کرتیں

وَلٰكِنْ تَعْمٰى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ۝ وَا

بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ بھی اندھے ہو جایا کرتے ہیں اور

يَسْتَعْمَلُوْكَ بِالْعَذَابِ وَاِنْ يَخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَ كٰذِبٍ

(اے رسول) وہ عذاب کے بارے میں تم سے جلدی کرنے میں حالانکہ اللہ تمہیں اپنے وعدہ خلاف کرتا

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا

اور تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہاری رگتوں سے ہزار برس کے برابر

تَعُدُّوْنَ ۝ وَكَايْنٌ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمَلَيْتُمْ لَهَا وَهِيَ

ہے اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئیں جو نافرمان تھیں اور جس نے انکو

Handwritten notes at the top of the page, including 'اقترب الناس' and other religious commentary.

Extensive handwritten notes on the right side of the page, providing detailed commentary on the verses.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتْهَا، وَإِلَى الْمَصِيرِ ۚ قُلْ يَا أَيُّهَا

ملت دی پھر آنکو دھر پکڑا اور میری ہی طرف بازگشت ہے تم یہ کہو کہ اسے

النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا

آدمیو! سوائے اسکے نہیں کہیں تم کے لیے ایک کھلاؤ اتنا لاپس بس جو لوگ ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۚ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

اور جنہوں نے نیک عمل کیے اُنکے واسطے گناہوں کی بخش ہوگی اور عزت کی روزی

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُجْرِمِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں عاجز کر دینے کی نیت سے کوشش کرتے ہیں وہی مجرمی

الْحَيِّرِينَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا

ہیں اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ جس وقت

نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانَ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۚ

اُس نے کوئی خواہش کی شیطان نے اُسکی خواہش میں کوئی (نہ کوئی) دخل دیا

فَيَنْسِفُ اللَّهُ مَا بَلَغَ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ ثُمَّ يَأْتِيكُمُ اللَّهُ بِآيَاتِهِ وَاللَّهُ

پس شیطان جو دخل دیتا ہے اللہ اُسکو مٹا دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ

جاننے والا (اور) حکمت والا ہے تاکہ شیطان نے جو دخل دیا ہے اُسکو اُن لوگوں کے لیے آزمائش

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبَهُمْ دُورَاتٌ

قراردے جگے دلوں میں روک ہے اور اُنکے لیے جو سنگدل ہیں اور شیک

الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۚ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ

ظالم سخت نافرمانی میں ہیں اور ایک غرض یہ بھی ہے کہ وہ لوگ

أَوْ تَوَالِعَ آتَهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ

جکو تم دیا گیا ہے وہ یہ جان لیں کہ حق تمہارے پروردگاری کی طرف سے ہے ہیں اس پر ایمان لے آئیں

وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُرِيدُ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۚ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

اور اسے اپنے اہل بیت سے اور ان سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایک کھلاؤ اتنا لاپس بس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اُنکے واسطے گناہوں کی بخش ہوگی اور عزت کی روزی اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں عاجز کر دینے کی نیت سے کوشش کرتے ہیں وہی مجرمی ہیں اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ جس وقت کوئی خواہش کی شیطان نے اُسکی خواہش میں کوئی (نہ کوئی) دخل دیا پس شیطان جو دخل دیتا ہے اللہ اُسکو مٹا دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے تاکہ شیطان نے جو دخل دیا ہے اُسکو اُن لوگوں کے لیے آزمائش قراردے جگے دلوں میں روک ہے اور اُنکے لیے جو سنگدل ہیں اور شیک ظالم سخت نافرمانی میں ہیں اور ایک غرض یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو تم دیا گیا ہے وہ یہ جان لیں کہ حق تمہارے پروردگاری کی طرف سے ہے ہیں اس پر ایمان لے آئیں

م

کلمہ

اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں عاجز کر دینے کی نیت سے کوشش کرتے ہیں وہی مجرمی ہیں اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ جس وقت کوئی خواہش کی شیطان نے اُسکی خواہش میں کوئی (نہ کوئی) دخل دیا پس شیطان جو دخل دیتا ہے اللہ اُسکو مٹا دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے تاکہ شیطان نے جو دخل دیا ہے اُسکو اُن لوگوں کے لیے آزمائش قراردے جگے دلوں میں روک ہے اور اُنکے لیے جو سنگدل ہیں اور شیک ظالم سخت نافرمانی میں ہیں اور ایک غرض یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو تم دیا گیا ہے وہ یہ جان لیں کہ حق تمہارے پروردگاری کی طرف سے ہے ہیں اس پر ایمان لے آئیں

Handwritten notes at the top of the page, including the number 22 and the word 'اقتوالی'.

فَتَحَبَّتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا

پس اُنکے دل اس کے لیے نرم ہو جائیں اور ضرور اللہ اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں مراہم مستقیم

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا

نیک پہنچا رہنے والا ہے اور جو لوگ کافر ہو چکے وہ توبہ پا

فِي مَرِيئَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ

اُسکی طرف سے شک میں رہیں یہاں تک کہ قیامت اُنکو بجایک آئیگی

يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ

انوکے دن کا عذاب اُن پر آجائیگا اختیار اُس دن خدا ہی کو ہوگا

يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

دہی اُنکے مابین فیصلہ کرے گا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے

فِي جَنَّةٍ النَّعِيمِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا

وہ توفیق والی جنتوں میں ہونگے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا

فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۚ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا

پس اُنہی کے لیے ذلیل کرنا والا عذاب ہوگا اور جنہوں نے راہ خدا میں

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لِيُرْزَقْنَهُمْ اللَّهُ

ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے ضرور اللہ تعالیٰ اُنکو بہت ہی اچھا

رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَهَوَّ خَلْقَ الرَّزْقِ

رزق عطا فرمائے گا اور بیشک اللہ سب سے اچھا رزق عطا کرنا والا ہے

لَعَلَّهُمْ يَرْزُقُونَ ۚ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ

ضرور اُنکو ایسے مقام میں پہنچا دے گا جو وہ پسند کرے اور بیشک اللہ بڑا جاننے والا (اور)

حَلِيمٌ ۚ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ

بردار ہے (تو ہوگا) اور جو اسی تکلیف پہنچائے جسکی تکلیف خود اُسکو پہنچائی گئی ہو

Extensive handwritten marginal notes on the right side of the page, including the word 'عاقب' and various religious commentary.

Handwritten notes at the bottom of the page, including the word 'عاقب' and other religious text.

لَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَهُوَ الَّذِي

ضرور خدا تعالیٰ کو کھلے اور پھر مہربانی کرے والا (اور) رحم کرنے والا ہے اور وہ دہی ہے ہے

أَحْكَمُ ذُرِّيَّتِكُمْ ثُمَّ يَمِيْتِكُمْ ثُمَّ يَحْيِيكُمْ وَإِنَّ الْإِنْسَانَ

تکو زندہ کیا پھر وہ تکو موت دیکھا پھر وہ تکو زندہ کرے گا بیشک انسان بڑا ناشکر

لَكَفُورٌ ۝ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوا

ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ اپنایا ہے اور کیا ہے جس پر وہ چلے وہ اس میں

فَلَا يَنبَازُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ مَا تَشَاءُ

ہیں چاہیے کہ وہ تم سے امر دین میں نہ جھگڑیں اور تم اپنے رب کی طرف بلائے چلے جاؤ یقیناً

لَعَلَّ هُدًى مُّسْتَقِيمًا ۝ وَإِنْ جَادَلُوا فَكُلِّ اللَّهُ

تم ہدایت مستقیم پر ہو اور اگر وہ تم سے جھگڑا ہی کریں تو کہو کہ جو

أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عس تم کرنے ہوا اللہ اس سے خوب واقف ہے قیامت کے دن اللہ تمہارے مابین ان معاملات میں

فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

نیکو فرمایا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے کیا تم یہ نہیں جانتے کہ آسمان میں

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ

اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے بیشک یہ سب ایک کتاب میں ہے

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ وَيَعْدُونَ مِنْ

بیشک یہ اللہ پر آسان ہے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو

دُونَ اللَّهِ مَا لَهُ يَنْزِلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَالِيًّا لَّهُمْ

پوجتے ہیں جگے بارے میں خدا نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور جگے بارے میں انکو

بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصْرِ ۝ وَإِذَا تَنَزَّلَا

کوئی علم نہیں ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہوگا اور جو وقت آئے سارے



طہ فلا یباز عنک فی الامر واذع الی ربک ما تشاء لعل ہدی مستقیم اور اگر وہ تم سے جھگڑا ہی کریں تو کہو کہ جو اعلم بما تعملون اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون ا لَمْ تعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر و یعدون من دون اللہ ما لہ ینزل بہ سلطانا و مالیا لہم بہ علم و ما للظالمین من نصر و اذا تنزلت

عَلَيْهِمْ اَيْتَابٌ مِّنْ تَعْرِفٍ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ

ہماری کھلی آئینیں بڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اُنکے چہروں سے تم انکار

كُفْرٍ وَالْمُنْكَرُ دِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ

(کے آثار) پہچان لو گے قریب ہے کہ جو ہماری آئینیں بڑھتے ہیں

يَتَلَوْنَ عَلَيْهِمْ اَيْتَابٌ مِّنْ قُلُوبِكُمْ بِشَرِّ مَن

ان پر یہ لوگ حملہ کر بیٹھیں تم کھدو کیا میں تم کو اس سے بدتر کی خبر

ذِكْرِكُمْ وَالنَّارُ رُوِيَ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا

دول وہ دوزخ ہے جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اللہ نے اُنے اُسکا وعدہ کیا ہے

وَيَسُّ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ

اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے اے آدمیو! ایک مثل بیان کی گئی ہے

فَاسْتَمِعُوا لِلَّهِ طَرَانِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لِن

اُسکو فورے سن لو یقیناً وہ جنکو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کبھی

يَخْلُقُوا اِذْ يَابَاوُؤًا جَمَعُوا لِلَّهِ طَرَانِ يَسْلُبُهُمْ

ایک نئی ہی پیدا کر سکتے کہ اُنکے لیے سب جمع ہو جائیں اور اگر کئی ان سے کوئی چیز

الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُ وَهُنَا ضَعْفُ الطَّالِبِ

وہیں لیجئے تو اس سے بچرانا نہ سکتے

وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَّرَ وَاللَّهُ حَقُّ قَدَرِهِ طَرَانِ اللَّهُ

پڑے وہ دور فرود سے ہیں انہوں نے اللہ کو چھانا ہی نہیں جیسا کہ اُنکے چاہنے کا حق ہے بیشک اللہ

لَقَوِي عَزِيزٍ اللَّهُ بِصُطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ

وقت والا اور زبردست ہے اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسولوں کو

رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

چھاٹ لیتا ہے جبکہ اللہ سُننے والا (اور) دیکھنے والا ہے

Handwritten marginal notes in Urdu script on the left side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal note 'ع' (Alif) indicating a specific section or verse reference.

Handwritten marginal note 'کفر' (Kufr) indicating the theme of disbelief.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَوَلَّى اللَّهُ

وہ اُنکے آئندہ کا حال بھی جانتا ہے اور گزشتہ کا (بھی) اور اللہ ہی کی طرف

تَرْجِعُ الْأُمُورَ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا

کل امور کی بازگشت ہوگی اسے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو تم رکوع کرو

وَأَسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ۖ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ

اور سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور نیکی کرو

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۗ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

تاکہ تم فلاح پاؤ اور خدا کی راہ میں ایسا جہاد کرو جو حق جہاد کرنا ہے

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

اُسے تمکو چن لیا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی سختی روا نہیں

الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِثْلَ آيَاتِكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ

یہ تمہارے باپ ابراہیمؑ ہی کی ملت ہے (اور اس ملت سے)

سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۗ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

پہلے ہی سے تمہارا نام مسلم (مطہر و نیر دار) رکھا اور اس (قرآن میں) اللہ ہی نام رکھا

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا

تاکہ رسول تمہارے اعمال و افعال پر گواہی دے اور تم لوگوں کے

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

اعمال و افعال پر گواہی دو پس اب تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ

الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ

دو اور اللہ پر پورا (پورا) بھروسہ رکھو وہی تمہارا کارساز ہے

فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

پس وہ سب سے بہتر کارساز اور سب سے بہتر مددگار ہے

سورة الحج

الحج

سورة الحج

Handwritten marginal notes at the top of the page, including phrases like 'وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ' and 'وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ'.

Vertical handwritten notes on the right side of the page, providing commentary on the verses.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, including phrases like 'وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ' and 'وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ'.